

تعاقات عامہ دفتر

جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی

January 29, 2025

پریس ریلیز

جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 'ایران اور ہندوستان کے درمیان تہذیبی تعاقدات' کے موضوع پر ٹاک کی میزبانی کی

سینٹر فار ویسٹ ایشیان اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 'ایران اور ہندوستان کے درمیان تہذیبی تعاقدات: صلاحیتیں اور امکانات' کے موضوع پر مورخہ اٹھائیں جنوری دو ہزار پچیس کو ایک انتہائی معلوماتی اور فکر انگیز ٹاک کی میزبانی کی۔ واضح رہے کہ یہ مذاکرہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے عمارت ابن خلدون میں واقع اندیسا عرب لکھر سینٹر کے کانفرنس ہال میں منعقد ہوئی۔ ڈاکٹر فرید الدین فریدسر، لکھر کاؤنسلر، ایرانی سفارت، دہلی نے یہ ٹاک پیش کیا۔ تہذیبی و ثقافتی مطالعات میں لجپسی رکھنے والے اسکالر، معلمین اور طلباء وغیرہ اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ ڈاکٹر فریدسر نے ہندوستان اور ایران کے مابین سیاسی و تہذیبی تعاقدات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا۔ ان روابط کو آج کس طرح بہتر کیا جاسکتا ہے اس سلسلے میں انہوں نے کئی اہم امور کی طرف اشارے کیے۔ ان کی گفتگو جغرافیائی سیاست، مشترکہ تہذیب، ادب اور آرت سمیت و سیع کنیوس کو محیط تھی۔ انہوں نے وہ طریقے بتائے جن سے دونوں ملکوں کے درمیان رشتہوں کو بہتر کرنے میں تہذیبی و ثقافتی تعاقدات معاونت کر سکتے ہیں۔

سینیارکنویز پروفیسر انیس الرحمن کی تعارفی تقریر کے ساتھ پروگرام کا آغاز ہوا۔ پروفیسر الرحمن نے مہمانان کا خیر مقدم کیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ دونوں ملکوں کے تہذیبی روابط کیوں اہمیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے ہند۔ ایرانی تعاقدات کی اہمیت اجاگر کی اور بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان افہام و تفہیم کو بہتر کرنے میں تہذیبی لین دین دین کس طرح معاون ثابت ہو سکتی ہے۔

پروفیسر ہمایوں اختر نظمی، ڈائریکٹر، سینٹر فار ویسٹ ایشیان اسٹڈیز، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تفصیلی تجزیے کے ساتھ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ پروفیسنل نے گراں قدر خیالات کے لیے مقرر کا شکریہ ادا کیا اور جاری تعلیمی و تہذیبی بحث و مباحثہ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی۔

مغرب ایشیائی خطوں کے تہذیبی مطالعات پر گہری نظر رکھنے والے ماہر کے طور پر انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے ایرانی تہذیب اور سماج کے مطالعہ میں لجپسی رکھنے والے محققین کو تعاون فراہم کرنے کے سلسلے میں ڈاکٹر فرید الدین

فرید سر کا عہد کا ذکر کیا۔ اخیر میں انھوں نے تمام شرکا اور حاضرین کا ان کی لمحپسی اور انہاک کی ستائش کی اور باقاعدگی سے اسی نوعیت کے مزید پروگرام منعقد کرانے کی اہمیت واضح کی۔

تعقات عامہ دفتر

جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دہلی